

ROOTWORDS AT TAUBAH 94-106

سَيَخْلِفُونَ	تُرَدُّونَ	سَيَرَى	أَخْيَارِكُمْ	رَجَعْتُمْ	يَعْتَلِدُونَ
ح ل ف	ر د د	ر أ ي	خ ب ر	ر ج ع	ع ذ ر
تو قسمیں کھائیں گے	تم لوٹائے جاؤ گے	ابھی دیکھے گا	تمہارے سب حالات	واپس جاؤ گے تم	وہ عذر کریں گے
الدَّوَابِّ	يَنْتَرِضُونَ	مَغْرَمًا	أَجْدَرُ	مَأْوَاهُمْ	انْقَلَبْتُمْ
د و ر	ر ب ص	غ ر م	ج د ر	أ و ي	ق ل ب
مسیبوں کے	وہ انتظار کرتے ہیں	تاوان	اس قابل ہیں	ان کا ٹھکانا	تم واپس جاؤ گے
مُرْجُونَ	مَسْتَرْدُونَ	خَلَطُوا	اعْتَرَفُوا	مَرَدُوا	حَزَلْتُمْ
ر ج و	ر د د	خ ل ط	ع ر ف	م ر د	ح و ل
ملتی ہے / موقوف ہے۔	عنقریب تم لوٹائے جاؤ گے	انہوں نے ملا دیا ہے	اقرار کیا ہے انہوں نے	اڑے ہوئے ہیں	تمہارے گرد و نواح